

برائے فوری اجراء

ارتھ منتھ کو برامپٹن میں منائیں!

پارکس کی صفائی، شہر کے ارتھ ڈے کی پہلی ماحولیاتی تقریب کو منانے اور شجرکاری کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کریں۔

برامپٹن، آن (1 اپریل 2022) – ایک گرین سٹی کے طور پر، برامپٹن ماحولیاتی استحکام کی کوششوں اور ماحول پر پڑنے والے مضر اثرات کو کم کرنے میں مسلسل پیش قدمی کر رہا ہے۔ اس اپریل کے مہینے میں، سٹی کی جانب سے کمیونٹی کے لیے ماحولیاتی اقدامات میں حصہ لے کر ارتھ منتھ کو منائیں۔

پارکوں کی صفائی – 1 اپریل

برامپٹن کے پارکس کی 2022 کی صفائی کا عمل جاری ہے۔ رہائشی 1 اپریل سے 1 نومبر تک اپنی پسند کے پارک میں صفائی کی قیادت کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کر سکتے ہیں۔ سٹی مٹی کے مہینے میں صفائی کے منظم پروگراموں کی میزبانی بھی کرے گا، جس میں ہر وارڈ کی جوڑی میں ایک تقریب منعقد کی جائے گی اور ایک مفت کمیونٹی باربی کیو پیش کیا جائے گا۔ مزید جانیں اور مفت سپلائیز کے لیے اپنا کلین اپ یہاں رجسٹر کریں: www.brampton.ca/cleanup

ماحولیاتی تقریبات اور گرو گرین ایوارڈز کی تقریب – 23 اپریل

سٹی آف برامپٹن کی پہلی ماحولیاتی تقریب اور **گرو گرین ایوارڈز** میں شامل ہو جائیں! ہفتہ، 23 اپریل کو نورٹن پلیس پارک میں صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک، سٹی خاندان دوستانہ سرگرمیوں کا انعقاد کرے گا اور کمیونٹی میں ماحولیاتی رہنماؤں کو نئے گرو گرین ایوارڈز پیش کرے گا۔ تفصیلات اور تقریب میں رجسٹر کرنے کے لیے [یہاں](#) کلک کریں۔

شجرکاری – 24 اپریل

ٹورانٹو ریجن کنزرویشن اتھارٹی (TRCA) کے ساتھ شراکت میں، سٹی بروز اتوار 24 اپریل کو گور میڈوز کمیونٹی سنٹر میں صبح 10 بجے سے دوپہر 12 بجے تک درخت لگانے کی ایک مفت تقریب منعقد کرے گا۔ رجسٹریشن لازمی ہے۔ تفصیلات اور رجسٹر ہونے کے لیے www.brampton.ca/parks ملاحظہ کریں۔

اقتباسات

"برامپٹن ایک گرین سٹی ہے اور ماحولیاتی استحکام اور موسمیاتی تبدیلی کی کوششوں میں ایک رہنماء کی حیثیت رکھتا ہے۔ تبدیلی کا حصہ بنیں – پارکوں کی صفائی میں شامل ہوں، درخت لگائیں اور اس مہینے ہمارے پہلے ارتھ ڈے کی ماحولیاتی تقریب اور گرو گرین ایوارڈز کی تقریب میں شرکت کریں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن کے ماحولیاتی اقدامات ہمارے کاربن فوٹ پرنٹ کو کم کرنے اور 2050 تک ہمارے شہر میں پیدا ہونے والی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو 80 فیصد تک کم کرنے کے سفر میں ہماری معاونت کرتے ہیں۔ میں سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اس مہینے اور سال بھر کے اقدامات میں حصہ لے کر اپنے شہر کو صاف ستھرا اور سر سبز رکھنے میں مدد کریں۔"

- پال ویسینٹے، چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ؛ ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5، سٹی آف برامپٹن

"ہم ایک سرسبز شہر کے مشن پر گامزن ہیں، جیسا کہ کمیونٹی انرجی اینڈ ایمیشنز ریڈکشن پلان (CEERP) اور کونسل کی ترجیحات کی مدت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس مہینے، میں رہائشیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ماحول کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ رہائشی ہمارے پارکوں کو صاف کرنے، درخت لگانے، ارتھ ڈے کی تقریب میں شرکت کرنے یا اپنی پسند کے دیگر ماحولیاتی اقدامات کو مکمل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔"

- ٹوگ ویلینز، سٹی کونسلر، وارڈز 2 اور 6؛ ممبر انوائرنمنٹ اینڈ انٹری کمیٹی؛ ممبر، CEERP کمیونٹی ٹاسک فورس، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن اپنے موسمیاتی تبدیلی کے اہداف کو پورا کرنے، پائیداری کو بہتر بنانے اور ہماری کمیونٹی میں ماحولیاتی معیارات کو بڑھانے کے لیے وقف ہے۔ اس اپریل میں ماحولیاتی اقدامات میں حصہ لیں اور مزید جاننے کے لیے Brampton.ca ملاحظہ کریں۔"

- پال مورینسن، انٹیرم CAO، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca